



UNITED STATES COMMISSION ON INTERNATIONAL RELIGIOUS FREEDOM

(U.S. COMMISSION ON INTERNATIONAL RELIGIOUS FREEDOM, USCIRF) امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی

USCIRF کیا ہے

امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی (U.S. COMMISSION ON INTERNATIONAL RELIGIOUS FREEDOM, USCIRF) ایک خود مختار، دو فریقی امریکی وفاقی حکومت کا کمیشن ہے جو 1998 کے بین الاقوامی مذہبی آزادی سے متعلق ایکٹ (International Religious Freedom Act, IRFA) کے تحت قائم ہوا تھا۔ وسیع اساس رکھنے والے اتحاد نے، جس نے IRFA کو رو بہ عمل لانے کی پرزور وکالت کی، امریکی خارجہ پالیسی کے ایک مرکزی جزء کے بطور مذہبی آزادی کے بنیادی انسانی حقوق کو عروج بخشنے کی خواہش ظاہر کی۔ قانون کے لحاظ سے، USCIRF ریاستہائے متحدہ میں نہیں بلکہ بیرون ملک مذہب یا عقیدے کی آزادی کے عالمگیر حق پر نگاہ رکھتا ہے، اور اس کام کے لیے وہ بین الاقوامی معیارات استعمال کرتا ہے، اور صدر، وزیر خارجہ اور کانگریس کے نام پالیسی کی سفارشات پیش کرتا ہے۔ USCIRF کے کمشنرز صدر اور دونوں سیاسی جماعتوں کے کانگریس کے قائدین کے ذریعہ بحال کیے جاتے ہیں۔ ایک پیشہ ور، غیر فریقی عملہ USCIRF کے کام میں تعاون کرتا ہے۔ یوں تو USCIRF اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے الگ ہے، مگر محکمہ ہذا کا خصوصی سفیر برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی بر بنائے عہدہ نان ووٹنگ کمشنر ہے۔

بیرون ملک مذہبی آزادی کیا ہے

مذہبی آزادی بین الاقوامی قانون اور میثاقوں میں تسلیم شدہ ایک اہم انسانی حق ہے۔ حقوق انسانی کے عالمگیر اعلامیہ کا آرٹیکل 18 اس امر کی توثیق کرتا ہے کہ: "ہر کسی کو فکر، ضمیر اور مذہب کی آزادی کا حق حاصل ہے؛ اس حق میں اسے اپنا مذہب یا عقیدہ تبدیل کرنے کی آزادی، اور اکیلے یا معاشرے میں موجود دوسرے افراد کے ساتھ اور بر سر عام یا نجی طور پر تدریس، عمل، عبادت یا بجا آوری میں اپنے مذہب یا عقیدے کو آشکارا کرنے کی آزادی شامل ہے۔" مذہب یا عقیدے کی آزادی ایک وسعت پذیر حق ہے جس میں فکر اور ضمیر کی آزادی شامل ہے اور یہ اظہار، وابستگی اور اجتماع کی آزادیوں کے ساتھ باہم جڑی ہوئی ہے۔ اس آزادی کا فروغ امریکی خارجہ پالیسی کا ایک لازمی جزء ہے۔

USCIRF کیا کرتا ہے

• **ایک سالانہ رپورٹ جاری کرتا ہے** ہر سال پہلی مارچ تک۔ یہ رپورٹ حکومت امریکہ کے IRFA کے نفاذ کا جائزہ لیتی ہے؛ وہ ممالک تجویز کرتی ہے جنہیں وزیر خارجہ کو "مذہبی آزادی کی منظم، مسلسل، انتہائی قابل اعتراض خلاف ورزیوں" میں ملوث ہونے یا انہیں برداشت کرنے کے سبب "خصوصی طور پر باعث تشویش ممالک" کے بطور نامزد کرنا چاہیے؛ قریب 30 ممالک میں ملکی صورتحال کو ضبط تحریر کرتی ہے؛ اہم رجحانات پر رپورٹ دیتی ہے؛ اور امریکی پالیسی کے لیے تجاویز پیش کرتی ہے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی علاحدہ اور امتیازی بین الاقوامی مذہبی آزادی کی رپورٹ کے برخلاف، USCIRF کی سالانہ رپورٹ میں مخصوص پالیسی کی تجاویز شامل ہوتی ہیں۔

• **کانگریس میں مشغول ہوتا ہے** اس طرح کہ کانگریس کے دفاتر کے ساتھ کام کرتا ہے، قانون سازی پر مشورہ دیتا ہے، سماعتوں میں توثیق کرتا ہے اور مذہبی آزادی کے مسائل پر بریفنگ کرتا ہے۔ مثلاً، USCIRF نے کانگریس کو اس طرح کے مسائل پر مشغول کیا ہے: بین الاقوامی مذہبی آزادی کا تحفظ کرنا؛ کفر کے ارتکاب مخالف قوانین کا خطرہ؛ نسل کشی؛ چین، مصر، ایران، شام، ویتنام اور دیگر ممالک میں ریفریجی، مذہبی آزادی کا بیجا استعمال؛ یورپ میں یہودیت مخالف اور مسلم مخالف تعصب؛ اور دنیا بھر میں ضمیر کے قیدیوں کا پیمانہ وفا۔

- **عاملہ شاخ میں مشغول ہوتا ہے:** USCIRF عاملہ شاخ کے عہدیداران کے ساتھ، بشمول ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ اور ہوم لینڈ سیکورٹی میں معلومات کا اشتراک کرنے، باعث تشویش حالات کو نمایاں کرنے اور امریکی پالیسی کے مدنظر USCIRF کی تجاویز پر گفتگو کرنے کے لیے باقاعدہ میٹنگیں کرتا ہے۔
- **بیرون ملک مذہبی آزادی کے حالات کو ضبط تحریر کرتا ہے** اس طرح کہ حکومت کے اعلیٰ عہدیداران، غیر سرکاری تنظیموں کے نمائندوں، مذہبی قائدین، مظالم کے متاثرین، اور مذہبی آزادی کو فروغ دینے والے دیگر استفادہ کنندگان کے ساتھ میٹنگ کرتا ہے۔ جن ممالک کا دورہ کیا گیا ان میں شامل ہیں: افغانستان، آذربائیجان، بحرین، بنگلہ دیش، بیلاروس، برما، وسط افریقی جمہوریہ، چین، مصر، اریٹیریا، ایتھوپیا، انڈونیشیا، عراق، نائجیریا، پاکستان، روس، سعودی عرب، سری لنکا، سوڈان، شام، تاجکستان، ترکی، ترکمانستان، ازبکستان اور ویتنام۔
- **ریورٹیں مع تجاویز، پریس ریلیز، آراء اور جرنل آرٹیکلز جاری کرتا ہے** جو درج ذیل موضوعات پر مشتمل ہوتے ہیں: ارتکاب کفر کے قوانین کا مجموعی استعمال؛ روس میں پوتن کی خطرے میں ڈالنے والی مذہبی آزادی؛ ضمیر کے مذہبی قیدی؛ حقوق نسواں کی تائید کر رہی مجموعی مذہبی آزادی؛ مسلکی تشدد، برما میں مذہبی آزادی کا بیجا استعمال؛ یہودیت مخالف؛ اور زودگام اخراج میں پناہ گزینوں کے حوالے سے امریکی حکومت کا برتاؤ۔
- **کثیر فریقی انداز میں مشغول ہوتا ہے** مذہبی آزادی اور رواداری سے تعلق رکھنے والی میٹنگوں میں، بشمول اقوام متحدہ، یورپ میں تنظیم برائے سلامتی و تعاون (Organization for Security and Cooperation in Europe, OSCE) اور یورپی یونین میں اور مذہب یا عقیدے کی آزادی کے لیے اراکین پارلیمان کے بین الاقوامی پینل (International Panel of Parliamentarians for Freedom for Religion or Belief, IPP-ForB) کے ساتھ۔